

## 95565- روزے دار کے حلق میں خون کا ذائقہ محسوس کرنا

### سوال

کیا اگر ہم روزے کی حالت میں حلق کے اندر خون کا ذائقہ محسوس کریں اور تھوڑا سا اسے تھوک دیں تو روزے کی قضاۓ واجب ہوگی؟

### پسندیدہ جواب

اگر روزے دار اپنے حلق میں خون کا ذائقہ محسوس کرے تو اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں، چاہے وہ اسے نگل بھی جائے تو بھی ضرر نہیں، لیکن اگر خون منہ میں آجائے یعنی حلق سے نکل کر زبان پر آجائے اور وہ اسے نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اسی طرح ہر اس چیز کا جو حلق میں آجائی ہے حکم یہی ہو گا مثلاً بلغم اور کھنکار وغیرہ۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"میں بلغم اور کھنکار کے مسئلہ پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ روزے دار تکلف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اگر اپنے حلق کے آخری حصہ میں بلغم وغیرہ محسوس کریں تو اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔

یہ اس لیے کہ بلغم اور کھنکار اگر حلق میں ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر حلق سے باہر منہ میں آجائے اور وہ اسے نگل جائے تو بعض علماء کے ہاں روزہ ٹوٹ جائیگا، لیکن بعض علماء کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔

لیکن جو چیز ابھی حلق میں ہی تھی اور پھر واپس پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ اسے محسوس بھی کرتا ہو، انسان کو اسے حلق سے باہر نکالنے میں اپنے آپ کو نہیں تھکانہ چاہیے" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین (19/356).

واللہ عالم۔